



EFU TAKAFUL HIGH VALUE SAVINGS PLAN

All-in-One Contribution for Your Future

EFU TAKAFUL HIGH VALUE SAVINGS PLAN

This is an investment-linked takaful hybrid product that includes exclusive offerings tailored to priority customers, particularly for women and those seeking benefits related to pilgrimage. By addressing their specific needs, this plan ensures participants receive added value and dedicated support. With a high allocation structure and a wide range of benefits, participants can maximize returns while enjoying the reassurance of comprehensive, customized coverage.

EFU Takaful High Value Savings Plan has been reviewed and approved by the Shariah Advisor of EFU Life - Window Takaful Operations, Mufti Muhammad Ibrahim Essa who is a prominent scholar from Jamiah Darul Uloom Karachi and has a vast experience of Islamic finance and takaful.

Disclosure of Product:

This is a Family takaful product which has two distinct elements i.e., Protection and Investment. The Investment Component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).

Free Look Period:

If you decide to cancel your membership within fourteen days of receiving the membership document, you are entitled for an amount equivalent to contribution as a settlement benefit less any expenses incurred by EFU Life - WTO in connection with our medical or clinical examinations

Important Details:

Eligible age	18-65 years
Minimum and Maximum Plan Term	10-57 years
Maximum Age at Maturity	75 years
Minimum Contribution	1,000,000
Mode of Contribution	All modes available
Fund Acceleration P	Minimum FAC: Rs. 50,000
Sum Assured	Annual Contribution x Cover Multiple
Protection Multiples	5 – 75 (depending on the age of Participant at entry)

Opportunities for Growth:

You can select from the following unit linked funds mentioned below:
All available funds are categorized with their risk profiling as per the investment criteria

Funds		
EFU Takaful Growth Fund	EFU Takaful Conservative Fund*	EFU Takaful Aggressive Fund
Fund Categorization: Balanced	Fund Categorization: Income Fund	Fund Categorization: Aggressive
Risk Profile: Medium	Risk Profile: Low	Risk Profile: High
A unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah-Compliant investments. The objective of the fund is to maximize capital growth by investing in a portfolio spread across a wide range of investments such as Islamic mutual funds, approved equities, term deposits in Islamic Banks, and Sukuk Bonds	EFU Takaful Conservative Fund has a conservative investment allocation strategy and low risk. This is a unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah-compliant government securities, non-equity Shariah compliant mutual funds, Shariah-compliant short-term deposits, and cash in Islamic banks or Islamic windows of conventional banks. The fund aims to provide stable investment returns with minimal risk and is suitable in times of the volatile stock market	A unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah-Compliant investments, aimed at maximizing capital growth by using investments with an aggressive market outlook.

Multiple Fund Option:


Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Fund mix can be selected in the multiples of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50
***EFU Takaful Conservative Fund to be selected by default.**

What is Takaful?

Takaful is a Shariah compliant way of safeguarding yourself and your family against future financial losses. A Takaful product assists participants to share their risk on the basis of cooperation, brotherhood, mutuality and solidarity for the common good.

How does the Takaful Membership operate?

EFU Life's Takaful model is founded on the Wakalah-Waqf principle. Individuals in the community come together for a common purpose and contribute into a Waqf Fund operated by a Takaful Operator to protect themselves against future financial losses. The following pictorial representation summarizes how your Takaful membership will operate with EFU Life - WTO:



What is Surplus Sharing?

Takaful offers a unique feature of Surplus Sharing to the Participants in addition to risk mitigation benefits. By contributing Tabarru (donation) into the Participant's Takaful Fund (PTF), the participant may be entitled to a share of possible surplus funds. At the end of each year, EFU Life –Window Takaful Operations will determine the surplus in the PTF based on the method approved by the Shariah Advisor and Appointed Actuary.

What are the benefits of Surplus Sharing?

A part of the surplus may be distributed back to the participant in the form of Bonus Units through additional unit allocation in the Participant's Investment Account (PIA). These Bonus Units will enhance the Cash Value of your Takaful plan.

Waqf Donation:

Waqf Donation, which depends on the Takaful cover and age of the Participant, will be transferred from Basic Plan Contribution into Participants Takaful Fund (PTF).

Benefits:

Plan Option Benefit

Under this plan, participants have the opportunity to choose from any of the three options and optimize their investment returns, enhancing their potential for wealth accumulation by providing a solid foundation for achieving their financial goals.

Along with the basic Takaful High Value Savings Plan, we have introduced a dedicated Takaful High Value Women's Savings plan for female account holders and a Takaful Pilgrimage plan option for individuals who want to avail benefits relating to Hajj, Umrah or Ziarat. These options offer benefits specifically tailored to meet the unique needs of participants, ensuring comprehensive support for their individual requirements.

Together, these options create a comprehensive financial solution that supports both personal and family objectives, allowing participants to make informed choices that align with their aspirations. The below benefits are offered under the High Value Women's Savings Plan

- **Life care Female Benefit (Built-in benefit)**
- **Spouse Coverage Rider**
- **Maternity Coverage**

The below benefits are offered under the Pilgrimage Savings Plan

- **Accidental Death on Pilgrimage Benefit (Built-in Benefit)**
- **Hajj – e Badal Benefit**
- **Kafalat Benefit**

PRIMUS Loyalty Program:

PRIMUS clients can now enjoy an unparalleled advantage offered through PRIMUS Loyalty Program.

- **Food:** (Restaurants, Cafes, Bakers, Juice and Ice cream parlors)
- **Life Style:** (Clothing, Jewelry, footwear, Make-up and Home Décor)
- **Leisure:** (Airport Lounge, Travel & Tours, Cinema, Hotels, Amusement and Recreational centers)
- **Wellness:** (Hospitals, Labs, Pharmacies, Spas and Fitness centers)
- **Takaful Coverage:** (Health, Travel and Home)

These offers are a few taps away on your EFU Life PlanIT mobile app. So what are you waiting for! To download the app, scan the QR code.

Maturity Benefit:

The Participant (Covered Person) is entitled to the total cash value at the maturity of the plan

Death Benefit:

The unfortunate demise of the Participant (Covered Person) allows the nominated beneficiaries to receive the death benefit as given:

On death, the benefit payable is equal to:

- The **Greater** of the Sum Covered of the plan **OR** the Cash Value of units allocated against Basic Covered **Plus**

The Cash Value of units allocated against FAC payments – if any

Optional Benefits:

Below Optional Benefits are offered in the plan.

- **Takaful Accidental Death Benefit:***

If death occurs due to accident; this benefit provides an additional lumpsum benefit.

Options available:

High Value Savings
High Value Women's Savings
High Value Pilgrimage Savings



- **Takaful Accidental Death and Disability Benefit:***

This Benefit provides an additional lump sum benefit in case of accidental death or disability.

- **Takaful Accidental Death and Disability Benefit Plus:***

This Benefit provides an additional lump sum benefit in case of an accidental death or disability (permanent & total) that makes you permanently disabled.

- **Additional Term Takaful:**

This benefit increases the level of life cover by providing an additional amount in case of death of the Life Assured.

- **Takaful Family Income Benefit:**

This benefit ensures that a monthly income is paid to the family in case of an unfortunate death of the participant (Covered Person) during the plan term.

- **Takaful Waiver of Contribution:**

In case the participant is unable to follow any occupation due to sickness or accident, the contribution would be paid by EFU Life.

***Any one Takaful Accidental rider can be selected.**

Benefits for Female Takaful Customers:

- **Takaful Lifecare Female Benefit (Built-In):**

Takaful Lifecare Female Benefit provides you with a lump sum in case of the occurrence of any covered women-centric critical illness (including women-centric cancers). On diagnosis of any such covered critical illness, the Participant will be entitled to an additional benefit subject to the attached endorsement and the main plan Membership terms and conditions.

- **Takaful Spouse Coverage Benefit:**

On the death of the participant's spouse during the in-force term of the benefit, the sum covered amount from this benefit will be paid out. (This sum benefit of this benefit will not exceed the participant's sum covered).

- **Takaful Maternity Health Coverage:**

During the in-force term of the benefit, if the participant requires hospitalization for childbirth, the coverage of this benefit will cover the expenses for C-Section delivery and other pregnancy-related complications.

Fund Acceleration Contribution:

If you have surplus cash available at any point of time during the plan term, it can be invested in the plan to enhance your cash value. These additional payments in the plan are called Fund Acceleration Contribution payments. You can make these payments at any time while the membership is in force. The minimum FAC payment is Rs. 50,000.

100% of FAC payments are allocated to purchase units in the selected fund.

Unit Allocation:

The proportion of basic plan allocated to investment is as shown in table:

Membership Years	Contribution Allocation	Allocation Charges
Year 1	75%	25%
Year 2	80%	20%
Year 3	90%	10%
Year 4-5	100%	0%
Year 6-10	103%	0%
Year 11-15	105%	0%
Year 16 onwards	107%	0%

*An allocation charges will be deducted from the Paid Contribution every year as per the above table and the remainder will be allocated to the account value

Allocation Boosters:

If the membership has been continuously in-force there is an extra unit allocation every 5 years starting from the 10th membership year. If the plan has been continuously in-force there is an extra unit allocation as a percentage of basic contribution every 5 years starting from the 10th membership year.

End of the membership Years	Allocation % of average contribution paid
Year 10	10%
Year 15 and onwards, after every 5 years	10%

Sum covered:

This is the amount payable on the unfortunate event of death of the participant. This is equal to the Regular Basic Plan Contribution times the Cover multiple selected by the participant. The “Cover Multiple” is subject to limits dependent on the age at commencement. Refer to the table below for further details

Age (years)	Cover Multiple
18 to 35	5 to 75
36 to 40	5 to 50
41 to 49	5 to 25
50 to 60	5 to 10
61 to 65	5

Partial Surrender:

Without surrendering your membership, you can withdraw any amount from your cash value to meet a sudden need. Partial Surrender is allowed subject to residual value of Rs. 1,000,000.

Complete Surrender:

You may surrender your plan after the 2nd year’s contribution is paid. At the time of surrender, you will be paid the full cash value of your fund. However, surrender in early membership years may result in lower cash value.

Indexation:

This option gives you the security and peace of mind of knowing that the benefits provided by your plan will be automatically updated in line with inflation every year. Once you select this option, the contribution will increase every year by 5% of the prior year’s contribution.

Charges:

Applicable charges are as follows:

Charges	Rate/PKR
Administration Charges	PKR. 2,880/- per annum
Investment Management Charges	1.5% of the fund value per annum
Bid/Offer Spread	5% of net contribution
Allocation Charges	As per the Above "Unit Allocation" table
Surrender Processing Fee	PKR 500
Additional Wakalat-ul Istismar fee	An additional Wakalat-ul-Istismar fee equivalent to 50% of the total cash value will be charged in case of surrender before payment of two full-year contributions.

Takaful Donation (Waqf Donation):

An age-based Takaful Donation applies for the Takaful cover each year and is dependent on the sum at risk.

No Takaful Donation charges apply in years where the cash value exceeds sum covered.

Wakalah Charge:

50% of the Takaful Donation.

Claim:

In case of an unfortunate event, you may file your claim intimation through any Bank Alfalah Branch walk in, visiting the EFU Head Office or by visiting any of the EFU branches in the country. For a swift speedy process you may also call us at our call center (021-111-338-111) or simply visit our website, fill in the intimation form and email it to us at cod@efuhemayahtakaful.com. Thereafter, you will be contacted for next steps.

Disclaimer:

- This product is underwritten by EFU Life - Window Takaful Operations. It is not guaranteed or covered by Bank Alfalah or its affiliates and is not a product of Bank Alfalah. Hence EFU Life - Window Takaful Operations is responsible for all underwriting risk.
- Bank Alfalah is just a promoter/ distributor and corporate takaful agent of this product to its valued customers.
- Growth in the value of your contribution will depends on the performance of the selected Fund in which the contributions are invested.
- All investments made in the selected Fund are subject to market risks. The investment risk of the selected fund will be borne by the participant.
- Arrangements of all Takaful Claims, charges and payments relating to the Takaful Policies shall be the sole and exclusive responsibility of EFU Life - Window Takaful Operations.
- The past performance of the fund is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither EFU Life - Window Takaful Operations nor Bank Alfalah will incur any liability for the same.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by our consultant. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various Terms and Conditions; you are required to fully understand the illustration and other terms and conditions of the plan.
- Service Charges and taxes will be applicable as per the Bank's schedule of charge and taxation laws as stipulated by relevant authorities.

MUFTI MUHAMMAD IBRAHIM ESSA
Graduate from Jamiah Darul Uloom Karachi, Pakistan
Shariah Advisor – Islamic Finance and Takaful/Retakaful

المفتى إبراهيم عيسى
خريج الجامعة دارالعلوم كراتشي
المشیر الشرعی لا مور المالیه الاسلامیة

بسم الله الرحمن الرحيم

SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE


-SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE
UNDER RULE 26(1)(e) OF TAKAFUL RULES, 2012
FOR EFU LIFE ASSURANCE LTD – WINDOW TAKAFUL OPERATIONS

In the capacity of Shariah Advisor of EFU Life Assurance Ltd – Window Takaful Operations, I certify that I have reviewed the structure of EFU Takaful High Value Savings Plan which is based on the Wakalah-Waqf takaful model. I have also examined all relevant processes and documents including the Participants Membership Document.

Based on Shariah rulings and to the best of my knowledge and belief, the EFU Takaful High Value Savings Plan by Bank Alfalah of EFU Life Assurance Ltd – Window Takaful Operations, investment policy of the Takaful fund, relevant documents and processes are all Shariah compliant.

In my opinion, it is permissible from the Shariah point of view to obtain membership in this product and benefit from it.

Dated: 23 October, 2024



Muhammad Ibrahim Essa
Shariah Advisor
EFU Life Assurance Limited Window Takaful Operations



EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan
Tel: (021) 111-338-111 Email: csd@efulife.com



ای ایف یو تکافل ہائی ویلیو سیونگنز پلان

آپ کے مستقبل کے لیے سب کچھ ایک ساتھ

ای ایف یو ہائی ویلیو سیونگز پلان

یہ ایک انویسٹمنٹ سے منسلک کنفل ہائبرڈ پروڈکٹ ہے جس میں خصوصی پیشکشیں شامل ہیں جو خاص طور پر بریکمز صارفین کے لیے تیار کی گئی ہیں، خاص طور پر خواتین اور ان افراد کے لیے جو جگہ اور عمر سے متعلق فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی مخصوص ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ منصوبہ شرکاء کو اضافی قدر اور خصوصی مدد فراہم کرتا ہے۔ اعلیٰ الاٹمنٹ ڈھانچے اور وسیع فوائد کے ساتھ، شرکاء زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور جامع اور حسب ضرورت کوریج کے اطمینان سے لطف اندوز ہو سکتے۔

پروڈکٹ کا اظہار:

یہ ایک ایسا فیملی کنفل پروڈکٹ ہے جس کے دونوں عناصر ہیں یعنی، تحفظ اور سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری کا جزیونٹ سے منسلک فنڈ (فنڈز) کے تحت اساسی سرمایہ جات کی کارکردگی سے مربوط ہے۔

غور و فکر کا دورانیہ (فری لک پیریڈ):

یہ پالیسی کے اجراء سے لیکر 14 دن تک کا دورانیہ ہے جس میں شریک کنفل پالیسی کی شرائط و ضوابط پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اگر گلاپ غور و فکر کی مدت میں ہی اپنی پالیسی منسوخ کرنا چاہیں تو آپ کو پی ایم ڈی کی متعلقہ شق کے مطابق بطور فائدے کے کنٹریبیوشن کے مساوی رقم ادا کی جائے گی۔

اہم تفصیلات:

عمر کی اہلیت	18 سے 65 سال
کم از کم پلان کی مدت زیادہ سے زیادہ پلان کی مدت	10 سے 57 سال
پیمپو رٹی پر عمر کی حد	75 سال
کم از کم کنٹریبیوشن	1,000,000
کنٹریبیوشن کا طریقے کار	سالانہ، نصف سالانہ، سہ ماہی اور ماہانہ
اضافی اختیاری کنٹریبیوشن	کم از کم 50,000 روپے
زریعہ کنفل	سالانہ کنٹریبیوشن x پروٹیکشن ملٹیپل
پروٹیکشن ملٹیپل	75-5 (پالیسی کے آغاز پر شریک کنفل کی عمر سے شروع)

نشوونما کے لئے مواقع:

آپ درج ذیل فنڈز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں:

تمام فنڈز کی رسک پروفائیلنگ ان میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے تحت کی گئی ہے

فنڈز	ای ایف یو کنفل کٹرونیو فنڈ*	ای ایف یو کنفل ایگریو فنڈ
فنڈ کی قسم: متوازن	فنڈ کی قسم: کم فنڈ	فنڈ کی قسم: ایگریو
رسک پروفائل: درمیانی	رسک پروفائل: کم	رسک پروفائل: زیادہ
یہ فنڈ سے منسلک ایک شرکاء کنفل سرمایہ فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاریوں پر مشتمل ہے۔ فنڈ کا مقصد ایک پورٹ فولیو کے چھپاؤ میں سرمایہ کاریوں کی ایک وسیع رینج میں جیسے کہ اسلامک میڈیکل فنڈز، منظور شدہ مالی ایلوکیٹرز، اسلامی فنڈوں میں سرمایہ کاری اور صلوک فاؤنڈیشنز، ایکٹو میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے حاصل شدہ سرمائے کو زیادہ فروغ دینا ہے۔	ای ایف یو کنفل کٹرونیو فنڈ سرمایہ کاری کی تخصیص کی ایک مختلط حکمت عملی رکھتا ہے اور اس میں کم خطرہ شامل ہوتا ہے۔ یہ شریعت کے مطابق حکومتی سکیورٹیز، شریعت کے مطابق غیر ملکی میڈیکل فنڈز، شریعت کے مطابق قلیل المدت دی جانے والی حد مدت میں نقد پر مشتمل پورٹ سے منسلک شرکاء کنفل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے۔	یہ فنڈ سے منسلک شرکاء کنفل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاری پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ کی متوقع تیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمائے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔

متعدد فنڈز کی سہولت (ملٹیل فنڈز آپشن):

اس اختیار کے تحت، آپ پلان کے یونٹ سے منسلک دو فنڈز کے مرکب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فنڈ کے مرکب کو 10 فیصد کے ملٹیلز میں منتخب کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فنڈز کو 10/20، 90/30، 80/40، 70/50 یا 60/50 میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔


*ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فنڈز خود کار طور پر منتخب کیا جائے گا۔

تکافل کیا ہے؟

تکافل ماہرین شریعت کی زیر نگرانی تیار کردہ باہمی تعاون کے اصولوں پر مبنی تحفظ اور سرمایہ کاری کا طریقہ کار ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو اور آپ کے پیاروں کو مستقبل میں آنے والی مالی پریشانیوں ہر مسائل سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تکافل پروڈکٹس کے ذریعے باہمی تعاون اور بھائی چارے کی بنیادوں پر تکافل پلان کے شرکاء کو غیر متوقع جانی اور مالی نقصانات کی صورت میں مالی تعاون فراہم کیا جاتا ہے۔

تکافل ممبر شپ کیسے کام کرتی ہے؟

ای ایف یو لائف کا تکافل ماڈل وکالتہ وقف کے اصولوں پر مبنی ہے جس میں معاشرے کے کچھ افراد ایک اجتماعی مقصد کے لئے یکجا ہوتے ہیں اور تکافل آپریٹر کے زیر انتظام وقف فنڈ میں پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو مستقبل میں ہونے والے مالی نقصانات سے محفوظ کر سکیں۔ درجہ تصویریں خاکہ اس چیز کا خلاصہ بیان کرتا ہے کہ آپ کی تکافل رکنیت ای ایف یو لائف ونڈ تکافل آپریشنز کے ساتھ کس طرح کام کرے گی:



سرپلس شیئرنگ کیا ہے؟

یہ تکافل پلان شریک تکافل کو مالی خطرات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سرپلس کی تقسیم کی منفرد خصوصیت بھی پیش کرتا ہے شریک تکافل وقف فنڈ میں تبرع کی بنیاد پر زر تکافل دے کر وقف کی شرائط کے مطابق سرپلس کی تقسیم میں حصہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر سال کے آخر میں، ای ایف یو لائف اپنے شریعہ مشیر اور مقرر کردہ ایچو ری کی منظوری سے قابل تقسیم سرپلس کا تعین کرے گی۔

سرپلس شیئرنگ کے فوائد کیا ہیں؟

اضافی سرمایہ کا ایک حصہ پارٹنیشنس انویسٹمنٹ اکاؤنٹ (پی آئی اے) میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ اضافی یونٹس/بونس آپ کے پلان کی نقد مالیت پر بحیثیت مجموعی مثبت اثر ڈالتے ہوئے، اس میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔

تبرع برائے وقف:

شریک تکافل کی عمر اور زرخفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے زیر تکافل سے کچھ رقم پارٹنیشنس تکافل فنڈ (پی ٹی ایف) میں منتقل کی جائے گی۔

دستیاب آپشنز:

فوائد (بینیفٹ):

ہائی ویلیو سیونگ پلان

ہائی ویلیو وومن سیونگ پلان

ہائی ویلیو پلگرنج سیونگ پلان



اس منصوبے کے تحت، شرکاء کو تین مختلف اختیارات میں سے انتخاب کرنے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ اپنے سرمایہ کاری کے منافع کو بہتر بنا سکیں، جس سے دولت کے جمع کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور مالی اہداف کے حصول کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی جاتی ہے۔

بنیادی تکافل ہائی ویلیو سیونگ پلان کے ساتھ، ہم نے خواتین اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ایک مخصوص تکافل ہائی ویلیو وومن سیونگ پلان اور ان افراد کے لیے تکافل جج اور عمرہ پلان بھی متعارف کرایا ہے جو حج، عمرہ یا زیارت کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اختیارات شرکاء کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خصوصی فوائد پیش کرتے ہیں، جس سے ان کی انفرادی ضروریات کے لیے جامع مدد فراہم کی جاتی ہے۔

یہ تمام اختیارات مل کر ایک جامع مالی حل فراہم کرتے ہیں جو ذاتی اور خاندانی مقاصد دونوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور شرکاء کو ان کی خواہشات کے مطابق انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

پرائنسس

ہمارے صارفین کے لئے ایک اور منفرد خصوصیت پرائنسس ہے۔ پرائنسس بیمہ حیات انڈسٹری میں اپنی نوعیت کا پہلا تصور ہے۔ پرائنسس سے آپ ان منفرد فوائد کی ایک مکمل نئی دنیا کا تجربہ حاصل کریں گے جو خاص طور پر آپ کی ضروریات پوری کرنے کیلئے تشکیل دیا گیا ہے۔

• **کھانے:** (ریسٹورانٹس، کیفے، پیکرز، جوس اور آئس کریم پارلرز)

• **طرز زندگی:** (کپڑے، زیورات، پاپوش، میک اپ اور گھریلو آرائش)

• **تفریح:** (ایئر پورٹ لائونج، سفر اور سیاحتی سفر، سنیما، ہوٹلز، تفریحی مراکز)

• **سلامتی:** (ہسپتال، لیبارٹریاں، فارمیسی، اسپا اور درستی صحت کے مراکز)

• **تکافل کورج:** (صحت، سفر اور گھر)



یہ پیشکشیں آپ کے ای ایف یولائف پلان آئی ٹی موبائل ایپ سے چند دستک دور ہیں۔ تو کس کا انتظار ہے!

ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے، کیو آر (فوری جواب) کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔

مچھوڑی بینیفٹ

پلان کی مچھوڑی پر بیمہ دار شریک تکافل کو تمام نقد مالیت (کیش ویلیو) ادا کی جائے گی۔

فوائد بصورت فوتگی (ڈیٹھ بینیفٹ)

بیمہ دار شریک تکافل کی ناگہانی وفات کی صورت میں مستفیدان (نامزد بینیفیٹری) کو مندرجہ ذیل فوائد بصورت فوتگی میں حاصل ہوگا

☆ بنیادی پلان کا زرتکافل یا یونٹس کی نقد مالیت (کیش ویلیو)، (ان میں سے جو بھی زیادہ ہو) مع

☆ اضافی اختیاری کنٹریبیوشن (فنڈ ایکسٹریکشن کنٹریبیوشن) کے یونٹس کی نقد مالیت (کیش ویلیو)

ضمنی فوائد (اختیاری بینیفٹ)

تکافل ایکسیڈینٹل ڈیٹھ بینیفٹ:

اگر وفات کسی حادثے کے باعث پیش آتی ہے تو یہ فائدہ ایک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔

تکافل ایکسیڈینٹل ڈیٹھ اینڈ ڈسبیلیٹی بینیفٹ:

حادثاتی وفات یا معذوری کی صورت میں یہ رائڈر ایک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔

تکافل ایکسیڈینٹل ڈیٹھ اینڈ ڈسبیلیٹی بینیفٹ پلس:

حادثاتی وفات یا (مستقل اور مکمل) معذوری کی صورت میں جو آپ کو مستقل طور پر معذور کر دے یہ رائڈر ایک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔

* ایک وقت میں تکافل ایکسیڈینٹل بینیفٹ میں سے ایک کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

ایڈیشنل ٹرم تکافل:

شریک تکافل کی وفات کی صورت میں یہ رائڈر بنیادی پلان کے سم کو رکھا 50 فیصد سے 200 فیصد تک ایک اضافی رقم مہیا کر کے زندگی کے تحفظ کے درجے کو بڑھاتا ہے۔

تکافل فیملی انکم بینیفٹ:

یہ فائدہ ممبر شپ کی مدت کے دوران پارٹنر شپ کے اچانک وفات کی صورت میں یہ پلان اہل خانہ کو ایک ماہانہ آمدنی کی ادائیگی یقینی بناتا ہے۔

تکافل و یور آف کنٹریوشن فائدہ:

کسی بیماری یا حادثے کی صورت میں اگر شریک تکافل کی آمدنی کا ذریعہ نہ رہے تو پلان کا زر تکافل ای ایف یولائف ونڈو تکافل آپریٹر کے زیر انتظام چلنے والے وقف فنڈ/ پی ٹی ایف سے ادا کیا جائے گا۔

* ایکسڈنٹل ڈیٹھ فوائڈ میں سے صرف ایک کا ہی انتخاب کیا جاسکتا ہے

خواتین صارفین کے لیے فوائد:

لائف کیئر اینہا نسنڈ بینیفٹ (بلٹ ان):

یہ رائنڈر میں تحفظ شدہ سنگین بیماریوں میں سے کسی کے بھی ہو جانے پر یا تشخیص پر، 50,000 روپے کی حد سے شروع ہو کر زیادہ سے زیادہ 500,000 روپے سے مشروط اصل پلان کے سم کور کے مساوی ایک پلکدار فائدہ فراہم کرتا ہے۔

شریک حیات (Spouse) کورج رائنڈر:

شریک تکافل کے شریک حیات کی موت کی صورت میں، اس رائنڈر کی تکافل کی مدت کے دوران، اس رائنڈر کی مقررہ رقم ادا کی جائے گی۔ (اس رائنڈر کی مقررہ رقم شریک تکافل کی مقررہ رقم سے زیادہ نہیں ہوگی)۔

زچگی (Maternity) صحت کورج:

رائنڈر کی ان فورس مدت کے دوران، اگر شریک تکافل کو زچگی کے لئے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہو، تو یہ کورج سی سیکشن ڈیوری اور دیگر حمل سے متعلق پیچیدگیوں کے اخراجات کو پورا کرے گی۔

* تین ایکسڈنٹل ڈیٹھ بینیفٹ میں سے ایک وقت میں صرف ایک ہی کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

اضافی اختیاری کنٹریوشن (فنڈ ایکسلریشن کنٹریوشن) (ایف اے سی):

اگر شریک تکافل کے پاس مزید رقم موجود ہو تو پلان ان رقم کو پلان میں شامل کرنے کی اور بچتوں میں تیزی فراہم کرنے کی پلک پیش کرتا ہے۔ اس یکمشت رقم کو فنڈ ایکسلریشن کنٹریوشن کہتے ہیں اور اس کو دوران مدت پلان میں کسی بھی وقت جمع کروایا جاسکتا ہے۔ کم از کم ایف اے سی 50,000 روپے ہے۔

پونٹ کی ایلو کیشن

بنیادی پلان میں مختص کئے جانے والے پونٹس کا تناسب جو سرمایہ کاری کے لئے مقرر کیا گیا ہے، درج ذیل ٹیبل میں موجود ہے:

ممبر شپ سال	پونٹ ایلو کیشن %	ایلو کیشن کی چارجز *
1** سال	75 فیصد	25 فیصد
2 سال	80 فیصد	20 فیصد
3 سال	90 فیصد	10 فیصد
4 سے 5	100 فیصد	0 فیصد
6 سے 10	103 فیصد	0 فیصد
11 سے 15	105 فیصد	0 فیصد
16 اور آگے	107 فیصد	0 فیصد

* اوپر درج ٹیبل کے مطابق ہر سال ادا کئے گئے کنٹریبیوشن میں سے تخصیص کی فیس منہا کی جائے گی اور بقایا رقم اکاؤنٹ ویلیو کو مختص کی جائے گی

اضافی بونس ایلو کیشن:

اگر پالیسی مسلسل نافذ العمل رہی ہے تو ہر 5 سال بعد اضافی پونٹ الاٹمنٹ ہوتا ہے، جس کا آغاز دسویں پالیسی سال سے ہوتا ہے۔

اگر پلان مسلسل نافذ العمل رہا تو دسویں ممبر شپ سال سے ہر 5 سال بعد بنیادی کنٹریبیوشن کے فیصد کے طور پر اضافی پونٹ الاٹمنٹ کیا جاتا ہے۔

پالیسی سال	پونٹ کی ایلو کیشن
10 سال	10 فیصد
سال 15 اور اس کے ہر 5 سال بعد،	10 فیصد

سم کوورڈ:

یہ رقم پارٹنیشنس کی ناگہانی وفات کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سم کوورڈ کا تعین سالانہ بنیادی کنٹریبیوشن سے ضرب کردہ کوور ملٹیل کے مساوی ہے۔ کوور ملٹیل کا انحصار پالیسی حاصل کرتے وقت کی عمر پر ہے۔ درج ذیل ٹیبل سے سم کوور کا انتخاب کیا جائے گا:

پونٹیشن ملٹیل	عمر (سال)
5 سے 75	18 سے 35 سال
5 سے 50	36 سے 40 سال
5 سے 35	41 سے 49 سال
5 سے (70- عمر)	50 سے 60 سال
5	61 سے 65 سال

جزوی دستبرداری

جزوی دستبرداری فنڈ میں 20,000 روپے موجود رہنے سے مشروط ہے۔ اگر صارف مکمل دستبرداری کا انتخاب کرتا ہے تو تمام یونٹس کو کیش ویلیو میں تبدیل کر دیا جائے گا اور پلان کو ختم کر دیا جائے گا۔

مکمل دستبرداری

دو سال کے مکمل کنٹریبیوٹن ادا کر دئے جانے سے پہلے دستبرداری کی صورت میں ونڈ وٹکافل آپریٹل نقد قدر کے 50 فیصد کے مساوی اضافی وکالتہ الاستثمار فیس چارج کرے گا۔ دستبرداری کے وقت، آپ کو اپنے فنڈ کی کل نقد قدر ادا کی جائے گی۔ البتہ، رکنیت کے ابتدائی سالوں میں نقد قدر کم ہونے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔

افراط زر (انڈیکسیشن)

یہ اختیار آپ کو ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے یہ جان کر کہ آپ کے پلان سے دستیاب فوائد کی خود کار طور پر قطع نظر آپ کی صحت کے ہر سال افراط زر کے مطابق تجدید ہو جائے گی۔

ایک بار جب آپ یہ اختیار منتخب کرتے ہیں تو اس انتخاب کی صورت میں آپ کا کنٹری بیوٹن ہر سال پچھلے سال کے کنٹری بیوٹن کے 5 فیصد کے حساب سے بڑھے گا۔ اسی طرح اصل پلان کا سم کو ر بھی، اور اضافی رائڈرز اگر کوئی ہوں تو وہ شرائط سے مشروط اسی تناسب سے بڑھ جائیں گے۔ البتہ آپ کے سم کو ر کو بڑھائے بغیر صرف کنٹری بیوٹن بڑھانے کا اختیار منتخب کر سکتے ہیں۔ سم کو ر پر انڈیکسیشن کی شرح کے مطابق اضافے کا آپشن آپ 55 سال کی عمر تک حاصل کر سکتے ہیں، بشرطیکہ آپ ابتدائی طور پر طے کردہ شرائط کے مطابق قبول کئے گئے ہوں۔

اخراجات (چارجز)

ریٹ/ پاکستان روپے میں	چارجز
2,880 روپے سالانہ	انتظامی اخراجات (ایڈمنسٹریشن چارج)
مختص شدہ بنیادی اور اضافی فنڈ کنٹری بیوٹن 56 فیصد	یڈ/آفر (بونی/پیشکش) سپریڈ
فنڈ قدر کا 1.5 فیصد سالانہ	سرماہ کاری انتظامات اخراجات (انویسمنٹ منیجمنٹ چارج)
500 روپے	فنڈ تبدیل کرنے کی فیس
500 روپے	دستبرداری عمل درآمد فیس
دو سال کے مکمل کنٹری بیوٹن ادا کر دئے جانے سے پہلے دستبرداری کی صورت میں کل نقد قدر کے 50 فیصد کے مساوی اضافی وکالتہ الاستثمار فیس چارج کیا جائے گا۔	اضافی وکالتہ الاستثمار فیس چارج

تکافل ڈونیشن (وقف ڈونیشن):

شریک تکافل کی عموماً رسم ایٹ رسک کے حساب سے اچھو ریل کی طرف سے مقرر کردہ رقم جو کہ شریک تکافل فنڈ میں ہر سال جمع کی جائیگی۔ البتہ جب کیش ویلو سم کورڈ (ذرتحفظ) سے بڑھ جائے تو تکافل ڈونیشن کی مد میں کوئی رقم منہا نہیں کی جائے گی۔

• وقف فنڈ سے وکالہ خرچ:

تکافل عطیہ کا 50 فیصد

کلیم

کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ اپنے دعویٰ (کلیم) کی اطلاع بینک الفلاح کی کسی بھی شاخ میں جاکر، ای ایف یو ہیڈ آفس آکر یا ملک بھر میں ای ایف یو کی کسی بھی شاخ میں جا کر دے سکتے ہیں۔ فوری عمل درآمد کیلئے آپ ہمارے کال سینٹر (111-338-111) cod@efulife.com پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر موجود اطلاع فارم بھریئے اور ہمیں پرائی میل کر دیجئے۔ بعد ازاں، اگلے مراحل کے بارے میں آگاہ کرنے کیلئے آپ سے رابطہ کیا جائیگا۔

انتباہ:

• یہ پلان ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹڈ کا پیش کردہ پروڈکٹ ہے۔ یہ پلان بینک الفلاح یا اس سے ملحق کسی ادارے سے ضمانت کردہ یا بیمہ شدہ نہیں ہے اور نہ ہی بینک الفلاح کی پروڈکٹ ہے۔ ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹڈ شریک تکافل صارف/صارفین اور مستفید/مستفیدان (بینفٹری/بینفٹریز) کے کلیمز (دعووں) کا ذمہ دار ہوگی۔

• بینک الفلاح ای ایف یو لائف اشورنس لمیٹڈ کی طرف سے صرف ایک کارپوریٹ تکافل ایجنٹ/تقسیم کار کی حیثیت کام کر رہا ہے اور نہ ہی شریک تکافل صارف/صارفین اور مستفید/مستفیدان (بینفٹری/بینفٹریز) یا کسی بھی تیسرے فریق کی طرف سے ذمہ دار ہوگا۔

• سرمایہ کاری میں نفع اور نقصان کی ذمہ داری شریک تکافل کی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پالیسی کی میچورٹی یا دستبرداری نقد قدر (کیش ویلیو) پیشگی اندازے سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ منتخب شدہ فنڈ میں کی گئی تمام سرمایہ کاریاں مارکیٹ میں نقصان کی صورت حال پر منحصر کرتی ہیں۔ سرمایہ کاری کی کارکردگی کی صورت میں نقصان شریک تکافل کی ذمہ داری ہوگا۔

• ضروری نہیں کہ فنڈ کی ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کے لئے رہنمائی کا باعث ہو۔ کسی قسم کا پیشگی اندازہ ضروری نہیں کہ مستقبل کی ترجمانی کرے یا فنڈ کی ممکنہ کارکردگی کو بیان کرے اور فنڈ کی اچھی یا بری کارکردگی کی ذمہ داری ای ایف یو لائف اور بینک الفلاح بینک پر عائد نہیں ہوتی۔

• ہمارا سلیز کا نمائندہ آپ کو فوائد کی شخصی مثال پیش کرے گا۔ برائے مہربانی دیگر شرائط و ضوابط کو تفصیلاً سمجھنے کیلئے مثال میں بیان کی گئی باتوں کو بغور پڑھیں۔

• سروس اخراجات اور دیگر ٹیکسیز بینک کے شیڈول آف چارجز اور متعلقہ حکم سے مشروط ٹیکس قوانین کے مطابق ہوں گے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرعیہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ

ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز

ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کے شرعی مشیر ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے ای ایف یو تکافل ہائی ویلیو سیونگنر پلان کا جائزہ لیا ہے جو کہ بینک الفلاح کے توصل سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ تکافل پلان وقف اور وکالت کے اصولوں پر مبنی ہے۔

نیز میں نے اس مذکورہ اسکیم کے دستاویزی کاغذات اور متعلقہ دیگر امور بشمول سرمایہ کاری وغیرہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور بحمد اللہ میں نے ان تمام امور کو شریعت کے مطابق پایا ہے۔ لہذا میری رائے میں ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کی مذکورہ اسکیم کی رکنیت حاصل کرنا اور اس سے فوائد حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

تاریخ: ۳۰ جون ۲۰۲۰ء



محمد ابراہیم عیسیٰ

مفتی محمد ابراہیم عیسیٰ
شرعی مشیر

ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یو ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th، اسٹریٹ، فیرون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔

فون: 021 111 338 111 ای میل: csd@efulife.com